



## ٹام ہیرسن اور ویرن ڈیوٹر پی سی بی پوڈ کاسٹ کے مہمان

- ٹی ٹونٹی سیریز میں کارکردگی پر سرفراز احمد کا رد عمل
- مصباح الحق کی قومی ٹی ٹونٹی کپ سے قبل گفتگو
- رمیز راجہ کا کمنٹری کے دوران یادگار واقعہ
- قائد اعظم ٹرافی کی تازہ ترین صورتحال بھی پی سی بی پوڈ کاسٹ کی چھٹی قسط کا حصہ

لاہور، 10 اکتوبر 2019ء :

انگلینڈ اینڈ ویلز کرکٹ بورڈ کے چیف ایگزیکٹو ٹام ہیرسن اور کرکٹ آنرلینڈ کے چیف ایگزیکٹو ویرن ڈیوٹر نے اپنے دورہ اسلام آباد اور لاہور کو کامیاب قرار دیتے ہوئے مقامی انتظامیہ کے اقدامات کو سراہا ہے۔

16 منٹ پر مشتمل پی سی بی پوڈ کاسٹ کی چھٹی قسط میں اظہار خیال کرتے ہوئے ٹام ہیرسن نے کہا کہ انگلینڈ کرکٹ ٹیم کے 2022 میں دورہ پاکستان سے قبل حالیہ دورہ لاہور اور اسلام آباد کے دوران حاصل ہونے والی معلومات کا بغور جائزہ لیا جائے گا۔

دوسری جانب ویرن ڈیوٹر نے آنرلینڈ کرکٹ کے جلد دورہ پاکستان کا عندیہ دیا ہے۔

پی سی بی پوڈ کاسٹ کے چھٹے ایڈیشن میں قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان سرفراز احمد نے سری لنکا کے خلاف ٹی ٹونٹی سیریز کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ قومی کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ اور چیف سلیکٹر مصباح الحق نے 13 اکتوبر سے فیصل آباد میں شروع ہونے والے قومی ٹی ٹونٹی کپ کی اہمیت پر تبادلہ خیال کیا ہے۔

علاوہ ازیں پی سی بی پوڈ کاسٹ کے حالیہ ایڈیشن میں قائد اعظم ٹرافی اور قومی انڈر 19 کرکٹ ٹورنامنٹ کی تازہ ترین تفصیلات بھی شامل ہیں۔ سابق کپتان قومی کرکٹ ٹیم اور کمنٹیٹر رمیز راجہ کا کمنٹری کے دوران یادگار واقعہ بھی رواں ہفتے جاری ہونے والی پی سی بی پوڈ کاسٹ کا حصہ ہے۔

ٹام بیرسن :

پی سی بی پوڈکاسٹ کو خصوصی انٹرویو دیتے ہوئے چیف ایگزیکٹو انگلینڈ اینڈ ویلز کرکٹ بورڈ ٹام بیرسن نے واضح کیا کہ ان کا دورہ پاکستان انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی دعوت پر یہاں بین الاقوامی سیریز کے دوران سیکورٹی کی صورتحال کا جائزہ لینے آئے ہیں۔ اس دوران انہوں نے پاکستان میں سیکورٹی معاملات کی نگرانی کرنے والے افراد سے براہ راست ملاقاتیں کرنے کے ساتھ ساتھ مستقبل میں انگلینڈ کرکٹ ٹیم کے دورہ پاکستان پر تبادلہ خیال کیا۔

چیف ایگزیکٹو ای سی بی نے کہا کہ ان کی پاکستان آمد بہت مفید رہی ہے اور وہ تمام اہداف حاصل کر کے وطن واپس لوٹ رہے ہیں۔ ٹام بیرسن نے واضح کیا کہ فی الحال انگلینڈ کرکٹ ٹیم کے دورہ پاکستان میں کافی وقت موجود ہے تاہم وہ اس دوران برٹش ہائی کمیشن، وزارت داخلہ اور دیگر پولیس افسران سے رابطے میں رہیں گے۔

انہوں نے لاہور سیف سٹی پراجیکٹ کے منصوبے کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ یہ پراجیکٹ سیکورٹی صورتحال کی نگرانی کے لیے انتہائی مؤثر اور مفید ہے۔ مستقبل کے لائحہ عمل سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے ٹام بیرسن نے کہا کہ وہ حالیہ دورے کے دوران حاصل ہونے والی تمام معلومات وطن واپس لے کر جارہے ہیں تاکہ انہیں 2022 میں شیڈول انگلینڈ کرکٹ ٹیم کے دورہ پاکستان سے متعلق فیصلے کرنے میں آسانی ہو سکے۔

ٹام بیرسن نے کہا کہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہر ملک زیادہ سے زیادہ کرکٹ اپنے ہی میدانوں میں کھیلے مگر بدقسمتی سے ایسا ہو نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا کہ کرکٹ ایک بہترین کھیل اور اس کے فروغ کے لیے ہر ملک کو آگے بڑھ کر ایک دوسرے کی مدد کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا ہمیں ایک ایسی بنیاد بنانے کی ضرورت ہے جس کے مطابق ہر ٹیم اپنے ملک میں زیادہ سے زیادہ کرکٹ کھیل سکے۔

ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ میں شامل میچز میں شرکت کے لیے انگلینڈ کا دورہ کرنے والی پاکستان کرکٹ ٹیم کی میزبانی پر گفتگو کرتے ہوئے ٹام بیرسن نے کہا کہ ای سی بی کو پاکستان کی میزبانی کرنا اچھا لگتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کی انگلینڈ آمد کے دوران وہاں موجود کرکٹ کمیونٹی محظوظ ہوتی ہے۔ ائی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ 2019 سے قبل پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان محدود فارمیٹ کی سیریز اس کی تازہ ترین مثال ہے۔

ویرن ڈیوٹر م:

کرکٹ آئرلینڈ کے چیف ایگزیکٹو ویرن ڈیوٹر م نے پاکستان آمد کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہاں ان کی مہمان نوازی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی۔ انہوں نے کہا کہ آئرلینڈ کا شمار ٹیسٹ کھیلنے والے ممالک کی فہرست میں ہوتا ہے اور وہ پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ کی بحالی میں اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں۔

کرکٹ آئرلینڈ کے چیف ایگزیکٹو نے کہا کہ پاکستان آمد سے قبل وہ جو سوالات اور خیالات ساتھ لائے تھے اس دورے میں ان سب کے جوابات مل گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسلام آباد اور لاہور میں کرکٹ، سیکورٹی اور حکومتی عہدیداران سے ملاقاتیں انتہائی مفید رہیں، پاکستان میں کرکٹ کی مکمل بحالی کے لیے تمام ادارے مل کر کام کر رہے ہیں۔

ویرن ڈیوٹر م نے کہا کہ تمام سوالات کے جوابات ملنے کے بعد دورہ پاکستان سے انکار کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ رواں ماہ کے اختتام پر کرکٹ آئرلینڈ کی بورڈ میٹنگ ہے جہاں وہ بورڈ اراکین سے دورہ پاکستان کی تمام تر معلومات کا تبادلہ کریں گے۔

کرکٹ آئرلینڈ کے چیف ایگزیکٹو نے کہا کہ وہ اپنے کھلاڑیوں، حکومت اور انشورنس دینے والوں سے گفتگو کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ اب دورہ پاکستان کی دعوت ان کے لیے کوئی سرپرائس نہیں ہوگا بلکہ وہ اس حوالے سے سنجیدگی سے سوچ رہے ہیں۔

- ENDS -

Media contact:

**Ibrahim Badees Muhammad**

Editor – Urdu Content

Media and Communications

E: [ibrahim.badees@pcb.com.pk](mailto:ibrahim.badees@pcb.com.pk)

M: +92 (0) 345 474 3486

W: [www.pcb.com.pk](http://www.pcb.com.pk)

## ABOUT THE PCB

The Pakistan Cricket Board (PCB) is the sole governing body for the game of cricket in Pakistan. Its goal is to work in partnership with its stakeholders to promote, develop and grow the game throughout the country.

The PCB's purpose is to maintain and enhance the reputation and integrity of the game, fostering excellence and upholding the spirit of the game. The PCB selects junior and senior national men's and women's cricket teams to represent the country on the global stage, runs high performance cricket centres across the country and plans and organises domestic competitions and international bi-lateral series.

The PCB is committed to developing ground and facility infrastructure, monitoring the implementation of playing codes and regulations, and supporting the game at every level through its high quality training provision for officials and coaches.

Commercial Partners



[www.pcb.com.pk](http://www.pcb.com.pk) ●  
@therealpcb ●  
@PakistanCricketBoard ●  
@PakistanCricketOfficial ●  
@therealpcb ●

**PCB Headquarters**  
Gaddafi Stadium  
Ferozpur Road, Lahore  
Pakistan, PO Box 54000  
T: +92 42 3571 7231-4